

NYC میں نسل، قومی اصل، یا دیگر خصوصیات کی بنیاد پر منافرت یا امتیازی سلوک برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔

اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی فرد کے ساتھ آپ کی شناخت — بشمول آپ کی نسل، قومیت یا مذہب کی وجہ سے جسمانی ہراسانی ہوئی یا مارپیٹ کی گئی ہے تو — براہ مہربانی 911 پر کال کریں۔

آپ جرم واقع ہونے کے بعد اس کے جذباتی، جسمانی اور مالی اثرات سے نمٹنے میں مدد اور دیگر اختیارات تلاش کرنے کے لیے بھی کرائم وکٹم ایڈووکیٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آل کرائمز ہاٹ لائن کو (4357) 1-866-689-HELP TDD: 866-604-5350 پر کال کریں۔

NYPD کے افسران کسی بھی ایسے فرد سے اس کی امیگریشن کی حیثیت نہیں دریافت کریں گے جو مدد طلب کر رہا ہو، اور زبان کی مدد دستیاب ہے۔ افسران افراد کو ان کے لئے دستیاب وکٹم سپورٹ سروسز سے رابطہ کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔

اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی فرد کے ساتھ، کسی کاروبار، آجر یا مالک مکان کے ذریعہ آپ کی شناخت کی وجہ سے ہراسانی یا امتیازی سلوک کیا گیا ہو تو — براہ مہربانی 311 پر کال کریں اور کہیں، ”human rights“ (حقوق انسانی)۔

آپ کو این وائی سی کے حقوق انسانی قانون کے تحت رہائش، کام کی جگہ، یا عوامی مقامات پر اپنی نسل، قومی اصل، عمر، امیگریشن کی حیثیت، معذوری، یا دیگر محفوظ درجات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ حاصل ہے۔ نیویارک سٹی کمیشن آن ہیومن رائٹس کو اس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ یا متاثرین کو نقصان کا پرچانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔

کیا آپ کو امیگریشن سے متعلق مدد کی ضرورت ہے؟

نیویارک کے سبھی باشندے، اپنی امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر، امیگریشن سے متعلق مفت، محفوظ قانونی مدد کے لیے ActionNYC کی ہاٹ لائن پر کال کر سکتے ہیں۔ 1-800-354-0365 پر ActionNYC کی ہاٹ لائن کو کال کریں یا 311 پر کال کریں اور کہیں ”ActionNYC“۔

کیا آپ کو دماغی صحت سے متعلق معاونت درکار ہے؟

NYC Well دماغی صحت کی ضروریات میں آپ کی معاونت کے لیے بھی دستیاب ہے۔ تربیت یافتہ کاؤنسلرز روزانہ -24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، 200 سے زائد زبانوں میں رازدارانہ معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ 888-NYC-WELL پر کال کریں، ”WELL“ لکھ کر 65173 پر بھیجیں یا آن لائن nyc.gov/nycwell پر جائیں۔